

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن میں سابق پریمیئر اور برامپٹن کے رہائشی بل ڈیوس کی زندگی کی یاد گار پورے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے

### تعزیتی کتاب برامپٹن سٹی ہال میں رکھ دی گئی ہے

برامپٹن، آن (12 اگست 2021) – سٹی آف برامپٹن جناب ولیم (بل) گرینول ڈیوس PC, CC, OOnt, QC جنہیں پیار سے "برامپٹن ہلی" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی وفات کی ملکی سطح پر مورخہ 8 اگست 2021 کو منعقد کی جانے والی تعزیتی تقریبات میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔ پریمیئر ڈیوس نے اونٹیریو کے 18 ویں پریمیئر کے طور پر 1971 تا 1985 تک صوبے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔ اس سے پہلے مسٹر ڈیوس نے پیل (67-59)، پیل نارٹھ (75-67) اور برامپٹن (85-75) کے انتخابی حلقہ جات میں بطور MPP اپنی خدمات سر انجام دیں۔

سٹی نے 8 اگست کو اپنی تمام سہولت گاہوں پر لہرائے جانے والے جھنڈے سرنگوں کیے اور پریمیئر ڈیوس کی یاد میں برامپٹن سٹی ہال کے گھنٹہ گھر کو بھی مدہم کر دیا۔ ایک تعزیتی کتاب 27 اگست تک ہفتے کے کام کے دنوں میں سٹی ہال کے سامنے کے دروازوں پر اوقات کار کے دوران صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک ایسے لوگوں کے لیے دستیاب ہو گی جو انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔

گذشتہ روز سٹی کونسل کے باقاعدہ اجلاس میں برامپٹن سٹی کونسل کے اراکین نے ان کی یاد میں ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی اور مسٹر ڈیوس کی ان خدمات پر روشنی ڈالی گئی جو مسٹر ڈیوس نے برامپٹن، صوبے اور ملک بھر میں عوامی زندگی میں بہتری لانے کے حوالے سے سر انجام دی تھیں۔ جولائی کے مہینے کے اوائل میں، سٹی کونسل نے برامپٹن کے سابقہ میئر پیٹرک رابرٹسن کی جانب سے ایک درخواست کی منظوری دی تھی، جس میں انہوں نے سٹی کے اندر سابق پریمیئر ڈیوس کی ایک یادگار تعمیر کرنے کے لیے \$100,000 وقف کرنے کی گزارش کی تھی۔

نومبر 2019 میں، مسٹر ڈیوس کو میئر پیٹرک براؤن کی جانب سے برامپٹن کے "کی ٹو دی سٹی (Key to the City)" کے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ "کی ٹو دی سٹی" ایک علامتی اعزاز ہے جو میونسپلٹی کمیونٹی کے کسی انتہائی قابل قدر رکن یا سٹی آف برامپٹن کے کسی ایسے ہر دلغزیز یا باوقار مہمان کو عطا کرتی ہے جس نے شہر کے باشندوں کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب کیے ہوں۔

ستمبر 2021 میں ان کی یاد میں ایک نجی تقریب منعقد کی جائے گی جبکہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک عوامی تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ ان کی فیملی کی اجازت سے، کینھی ڈیوس کو 61 مین اسٹریٹ، برامپٹن، ON L6Y 1M9 پر پھولوں کے گلدستے بھیجے جا سکتے ہیں۔ پریمیئر ڈیوس کے اعزاز میں رہائشی اپنی پسندیدہ چیریٹی کو عطیات بھی بھیج سکتے ہیں۔

**بامتعلق وفات**

• [ولیم گرینول ڈیوس اوبیچوئری - برامپٹن، آن | وارڈ فنل بومز](#)

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل عوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**



## Media Release

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)